

(ه) اللہ کی پسند و ناپسند (e)Likes and Dislikes of Allah

1. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾
تو اللہ پر ہیرنگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ﴿٧٦/ ٣﴾
Verily Allah loves those who act aright. ﴿3: A'l-e-Imran\76﴾
2. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْحَسِنِينَ ﴿٥٦﴾
کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ ﴿٥٦/ c : 7﴾
For the Mercy of Allah is near to the benevolent. ﴿7: Al-A'raf\56﴾
3. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾
اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ﴿١٤٦/ ٣﴾
And Allah loves the steadfast. ﴿3: A'l-e-Imran\146﴾
4. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَسِنِينَ ﴿١٩٥﴾
بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ﴿١٩٥/ 2 : 2﴾
Surely Allah loves the benevolent. ﴿2: Al-Baqarah\195﴾
5. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾
کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ﴿٤٢/ a : 5﴾
Surely Allah loves those who judge in equity. ﴿5: Al-Ma'idah\42﴾
6. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾
اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ﴿٢٥٨/ 2 : 2﴾
And Allah guides not the unjust people. ﴿2: Al-Baqara'h\258﴾
7. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾
اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ﴿٦٤/ a : 5﴾
And Allah loves not those who make mischief. ﴿5: Al-Ma'idah\64﴾
8. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣٩﴾
بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا شکر ہے ہدایت نہیں دیتا۔ ﴿٣٩/ ٣ : 39﴾
Verily Allah guides not the liar and the ungrateful. ﴿39: Az-Zumar\3﴾

9. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا جھوٹا ہے۔ ﴿٢٨﴾

(40: Al-Mumin / Al-Ghafir \ ٢٨/)

Truly Allah guides not the transgressor, liar! ﴿٢٨﴾

(40: Al-Mumin/Al-Ghafir\28)

10. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ﴿٣٨﴾ (22: Hajj \ ٣٨/ r)

Indeed Allah loves not the treacherous, the thankless. ﴿٣٨﴾

(22:Al-Hajj\38)

12. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾

کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ﴿٥٨﴾ (8: Anfal \ ٥٨/d)

Indeed Allah loves not the treacherous. (8: Al-Anfal\58)

13. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ﴿٢٣﴾ (16: Nahl \ ٢٣/1)

Verily He loves not the arrogant. ﴿٢٣﴾ (16:An-Nahl\23)

14. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٥٧﴾

اور اللہ کسی اترا نے، شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ﴿٥٧﴾ (23: Hadeed \ ٥٧/)

And Allah loves not the haughty and the vainglorious, ﴿٥٧﴾

(57:Al-Hadeed\23)

15. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٩﴾

اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ﴿٩﴾ (9: Taubah \ ٩٠/e)

And Allah guides not those who are evil doers. ﴿٩﴾ (9: At-Taubah\80)

16. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ﴿٣١﴾ (7: Al-A'raf \ ٣١/c)

Indeed Allah loves not the extravagant. ﴿٣١﴾ (7: Al-A'raf\31)

(و) اللہ سے شرک اور اسکی مخالفت

(f) Taking Partner and Antagonism to Allah

1. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

جن لوگوں نے اللہ کے سوا (اوروں کو) کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا) گھر بناتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ (اس بات کو) جانتے۔ ﴿٤١﴾

(29: Al-Ankabut\41)

The parable of those who take protectors other than Allah is that of the spider, who builds (to itself) a house; but truly the flimsiest of houses is the spider's house; - if they but knew. ﴿٤١﴾ (29: Al-Ankabut\41)

2. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ لِيُكْفِرَ ۚ تَوَّاسًا سِوَا اللَّهِ كَرِهُوا عَذَابَ اللَّهِ وَكَرِهْنَا لَهُمْ ۚ كَذِبًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں ہے؟ ﴿٣٩﴾ (39: Az-Zumar\32)

Who, then, does more wrong than one who utters a lie concerning Allah, and rejects the truth when it comes to him; is there not in Hell an abode for blasphemers? ﴿٣٩﴾ (39: Az-Zumar\32)

3. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿١٧﴾

اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنانا کہ (ایسا کرنے سے) ملامت زدہ اور (درگاہ اللہ سے) راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیئے جاؤ گے۔ ﴿١٧﴾ (17: Bani Israael / Al-Isra\39)

Take no other God besides Allah, lest you should be thrown into Hell, despised and rejected. ﴿١٧﴾ (17: Bani Israael / Al-Isra\39)

4. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثُرُوا ۖ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٨﴾

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ (اسی طرح) ذلیل کئے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کئے گئے تھے اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ ﴿٥٨﴾ (58: Al-Anfal\58)

Those who oppose Allah and His Messenger will be humbled to

dust, as were those before them: for We have already sent down clear signs. And the unbelievers (will have) a humiliating penalty. ﴿۵۸﴾

(58: Al-Mujadilah\5)

5. **إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْيَانِ ﴿۵۸﴾**

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ ﴿۵۸﴾ (۲۰/۱:58)

Those who oppose Allah and His Messenger will be among those most humiliated. ﴿۵۸﴾ (58: Al-Mujadilah\20)

6. **سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَافَعُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۶﴾**

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے کہتے کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکالو تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کی تیر چلاتے ہو۔ ﴿۶﴾ (6: Al-Ana'm\148)

Those who give partners (to Allah) will say: "If Allah had wished, we should not have given partners to Him nor would our fathers; nor would we have made any thing unlawful." So did their ancestors reject the truth, until they tasted of Our wrath. Say: "Have you any (certain) knowledge? If so, produce it before Us. You follow nothing but conjecture: you do not tell but lie." ﴿6﴾ (6: Al-Ana'm\148)

7. **وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾**

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی (پوجتے) اور نہ اس کے (فرمان کے) بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ (اے پیغمبر) اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا۔ تو پیغمبروں کے ذمے (اللہ کے احکام کو) کھول کر سنانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ﴿۱۶﴾ (16: Al-Ana'm\16)

Those who associate other gods will say: "If Allah had so willed, we should not have worshipped any one but Him - neither we nor our fathers, - nor should we have forbidden any thing without His permission." So did those who went before them. But what is the mission of messengers but to

preach the clear message? ﴿١٦﴾ (16: An-Nahl\35)

8. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾
(كافرو!) تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ﴿٢٨/٢﴾ (2)

How can you reject the faith in Allah? - seeing that you were without life, and He gave you life; then will He cause you to die, and will again bring you to life; and again to Him will you return. ﴿٢٨/٢﴾

(2: Al-Baqarah\28)

9. إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ ﴿٤٨/٤﴾ (4)

Allah forgives not that partners should be set up with Him; but He forgives anything else, to whom He pleases; to set up partners with Allah is to devise a sin most heinous indeed. ﴿٤٨/٤﴾ (4: An-Nisa\48)

10. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایاں نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں۔ تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ ﴿١١٣/٩﴾ (9)

It is not befitting for the Prophet and the believers to beg for forgiveness for polytheists, even though they be of kin, after it is clear to them that they are companions of the Fire. ﴿١١٣/٩﴾ (9: At-Taubah\113)

11. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٢٢﴾

بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لئے سب مجتمع ہو جائیں۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب (یعنی عابد اور معبود دونوں) گئے گزرے ہیں۔ ﴿٢٢/٢٢﴾ (22)

O Those on whom, besides Allah, you call, cannot create a fly, if they all get together for the purpose! and if the fly should snatch away

anything from them, they would have no power to release it from the fly.

Feeble are those who petition and those whom they petition! ﴿﴾

(22: Al-Hajj\73)

12. يَعْشِرَ نَجِينٍ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ

إِلَّا بِسُلْطَنِ ۖ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿﴾

اے گروہ جن وانس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ اور زور

کے سوا تم نکل سکنے ہی کے نہیں ﴿﴾ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿﴾

(33-33/ μ:55)

O you assembly of jinns and men! If you have the power to penetrate the zones of the heavens and the earth, then penetrate. You shall never be able to penetrate without authority. ﴿﴾ Then which of the favours of your Lord will you deny? ﴿﴾ (55: Ar-Rahma'n\33-34)

13. وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿﴾ وَاللَّيْعُونَ أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ

إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿﴾

اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آوے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی ﴿﴾ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی (کتاب) کی جو تمہارے

پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ﴿﴾ (39: Az-Zumar\54-55)

“And turn to your Lord and bow to Him, before the penalty comes on you: after that you shall not be helped. ﴿﴾ “And follow the best of (the courses) revealed to you from your Lord, before the penalty comes on you - of a sudden while you perceive not! ﴿﴾ (39:Az-Zumar\54-55)

6- ایمان بالرسول Faith in Messengers

سلسلہ انبیاء اور ان کا مقصد Chain of Messengers and their Mision

1. **وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ۝**

اور ہم نے ہر اُمت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سوزمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ﴿16: 1/36﴾

For We assuredly sent amongst every people a messenger, "Serve Allah, and eschew evil": of the people were some whom Allah guided, and some on whom error became inevitably established. So travel through the earth, and see what was the end of those who denied the truth. ﴿16: 1/36﴾

(16: An-Nahl\36)

2. **لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ**
ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو (یعنی قواعد عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ ﴿57: 25﴾

We sent aforetime our messengers with clear signs and sent down with them the Book and the Balance (of right and wrong), that men may stand forth in justice. ﴿57: Al-Hadeed\25﴾